

Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expression:

تعلیم اور تفریح کے ایک اہم ذریعے کی حیثیت سے ٹیلی ویژن کی افادیت اور اہمیت محتاج بیان نہیں۔ لیکن ٹیلی ویژن کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہیں۔ اس لیے نئے ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تعاون سے پاکستان میں سیٹ "اسمبل" کرنے کا کارخانہ لگائے تاکہ غریب لوگ بھی اسے خرید سکیں۔

Importance of television as a source of knowledge and entertainment is independent of any <sup>Beggars description</sup> discription.

<sup>Though</sup> ~~But~~ television is very expensive, <sup>yet</sup> ~~but~~ it could not decrease its popularity. Therefore, along with the <sup>its fame / demand has not diminished</sup> establishment of new television stations, government should make efforts to ~~assemble~~ sets in Pakistan with the cooperation of any foreign company so that poor people can ~~often~~ buy televisions.